



یونی ایل بیٹر لائف میرج پلان نہایت منظم طریقے سے آپ کو اپنا ذاتی فنڈ اکٹھا کرنے کی سہولت دیتے ہوئے آپ کے بچوں کی شادی کے لئے مکمل چیلنج فراہم کرتا ہے۔ چاہے اس کا مقصد آپ کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو یا انہیں نئی زندگی کی شروعات کے لئے مدد فراہم کرنا ہو۔ یہ پلان بہترین ہے۔

یہ پلان کس طرح کام کرتا ہے؟

- پلان کا کنٹری بیوٹن ای ایف یو لائف کے ایک اندرونی سرمایہ کاری فنڈ میں لگایا جاتا ہے جسے ”ای ایف یو مینیجڈ گروتھ فنڈ“ کہتے ہیں اور اسے فنڈ کے یونٹس خریدنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے شیئرز، حکومت اور دیگر فکسڈ انکم سیکیورٹیز اور کیش کے متوازن پورٹ فولیو کے ذریعے سرمائے کی نشوونما بڑھانا ہے۔
- اس فنڈ کا انتظام سرمایہ کاری کے ماہرین کے پاس ہے جو بنیادی سرمایہ کاریوں کے متنازع کو معاشی حالات اور سرمایہ کاری کے مواقع سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔



کیا تحفظ کی کوئی ضمانت ہے؟

پالیسی کی میچورٹی پر یہ پلان کم از کم قابل ادا رقم کی ضمانت دیتا ہے جو کہ اشورڈ رقم / انشورنس کور یا میچورٹی کے وقت فنڈ کی قیمت میں سے جو بھی زائد ہو۔

اشورڈ شخص کے انتقال کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟

بچت کی مدت کے دوران بد قسمتی سے اشورڈ شخص کے انتقال کی صورت میں ایک بنانا یا ”کنٹینی نیویشن بینیفٹ“ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ میچورٹی پر ٹارگٹڈ فنڈ حاصل ہوں۔ ای ایف یو لائف پلان میں اپنی کنٹری بیوٹن جاری رکھے گا تاکہ میرج پلان چلاتا رہے۔

ویور آف پرییم:

لائف اشورڈ شخص بیمار یا حادثے کی وجہ سے اپنی نوکری جاری نہ رکھ سکے تو پلان کی کنٹری بیوٹن ای ایف یو لائف کریگی۔

یونٹ کا تعین

یونٹس میں سرمایہ کاری کے لئے ادائیگی کا تناسب درج ذیل ہے۔

پالیسی سال	ایلیکشن کی شرح
1	40% - 30% پالیسی کی مدت پندرہ
2	(پالیسی کی مدت پندرہ)
3 سے آگے	100%
11 سے آگے	105%*

* اگر بنیادی پلان کی کنٹری بیوٹن -/20,000 روپے یا زائد ہو۔

دیگر بینیفٹ

- بچتوں تک رسائی کسی بھی وقت 2 سال پرییم کی مکمل ادائیگی کے بعد۔
- اختیاری بینیفٹ رائڈر: اکم بینیفٹ

قابل اطلاق عمر اور مدت

بچت کی کم از کم مدت 10 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ 25 سال ہے۔ مدت کا انتخاب اس طرح کیا جائے کہ بچت کی مدت کے اختتام پر عمر 75 سال سے زائد نہ ہو۔ یہ پلان 18 سال سے 65 سال (اگلی سالگرہ) کی عمر کے افراد کے لئے دستیاب ہے۔

کنٹری بیوٹن

کم سے کم سالانہ بنیادی پلان کا کنٹری بیوٹن صرف -/15,000 روپے ہے۔

چارجز:

- ☆ بڈ آفر سپر یڈ یا قاعدہ کنٹری بیوٹن کا 5 فیصد ہوگا۔
- ☆ فنڈ کی قیمت پر ماہانہ 0.125% سرمایہ کاری مینجمنٹ چارج کا اطلاق ہوگا۔
- ☆ 60 روپے انتظامی چارج ماہانہ کا اطلاق بھی ہوگا۔

انڈیکسیشن:

اس آپشن کے تحت، پرییم 55 سال کی عمر تک 5 فیصد سالانہ کے حساب سے بڑھے گا، بغیر کسی میڈیکل ثبوت کے۔

ڈسکلیمر: (Disclaimer)

- یہ پراڈکٹ ای ایف یو لائف ایسٹورنس لمیٹڈ نے انڈر رائٹ کی ہے، یونی ایل یا اس کے منسلک اداروں نے ہی اس کی ضمانت دی ہے اور نہ ہی انشورنس کی ہے نیز یہ یونی ایل کی پراڈکٹ نہیں ہے اور یونی ایل صرف ایک ڈسٹری بیوٹر کے طور پر کام کر رہا ہے۔
- سرمایہ کاری کے نفع اور نقصان کی ذمہ داری پالیسی ہولڈر کی ہے۔
- ضروری نہیں کہ فنڈ کی ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کیلئے رہنمائی کا باعث ہو۔ کسی قسم کی پیشگی اندازہ ضروری نہیں کہ مستقبل کی ترجہائی کرے یا فنڈ ز کی ممکنہ کارکردگی کو بیان کرے اور نہ ہی ای ایف یو لائف ایسٹورنس اور نہ ہی یونی ایل کسی بھی طرح ذمہ دار ہو سکے۔
- ہمارا سلیز کا نمائندہ آپ کو فوائد کی شخصی مثال پیش کریگا۔ برائے مہربانی دیگر شرائط و ضوابط کو تفصیلاً سمجھنے کے لئے اس مثال میں بیان کی گئی باتوں کو بغور پڑھیں۔
- سروس چارجز اور دیگر ٹیکسز بینک کے ”شیڈول آف چارجز“ اور متعلقہ حکام سے مشروط ٹیکس قوانین کے مطابق ہونگے۔
- یہ معاہدہ کس طرح کام کرتا ہے اسے پالیسی کے قواعد و شرائط میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ پراڈکٹ کی خصوصیات اور فوائد کا صرف ایک عمومی خاکہ پیش کرتا ہے اور اس میں دیئے گئے اعداد و شمار ظاہری ہیں اور بطور مثال پیش کیے گئے ہیں۔

UBL BetterLife

Safe today, Safe tomorrow



State Life Building No.1,
I.I. Chundrigar Road, Karachi - 74000, Pakistan
UAN: 111-825-888 Website: www.ubldirect.com

EFU LIFE ASSURANCE LTD.
EFU Life House: Plot No. 112, 8th East Street,
Phase I, DHA, Karachi, Pakistan.
Tel: (021) 111-EFU-111 (111-338-111)
Fax: (021) 34537519
Website: www.efulife.com

ہمیشہ کا وعدہ



United Bank Limited

111-825-888 www.ubldirect.com

UBL BetterLife
Marriage Plan